


- Zuliu folktale
- Wiehan de Jager
- Samrina Sana
- urdu / nyorsk
- III nivå 4



Honnigguidens hemn

جذب العسل / Honnigguidens hemn

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreført midlert av Barnebøker for Norge (barnebøker.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkес i Nоргe.

Overrett av: Wiehan de Jager
Illustrert av: Zuliu folktale
Skrevet av: Zuliu folktale
Johannesen, Martine Rørstad Sand (nn)

جذب العسل / Honnigguidens hemn

barnebøker.no

Barnebøker for Norge



https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no
Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens.
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons



یہ ایک شہد خور چڑیا نگیدے اور ایک لالہی آدمی گلگیلے کی کہانی ہے۔ ایک دن جب گلگیلے شکار کے لیے باہر ہوا اُس نے نگیدے کی پکار سنی۔ گلگیلے کے مذ میں پانی بھر گیا جب اُس نے شہد کے بارے میں سوچا۔ وہ رُک گیا اور اُس نے غور سے سنا۔ جب تک کہ اسے اپنے سر کے اوپر موجود ٹہنیوں پہ یہٹا پرندہ دکھائی نہیں دیا۔ چمک۔ چمک۔ چمک۔ چھوٹا پرندہ چپھایا جیسا کہ وہ الگے اور اس سے الگے درخت پر جا کر یہٹا۔ چمک۔ چمک۔ اُس نے بلایا۔ وقماً فرقاً وہ اس بات کو یقینی بنایا ہوا کہ گلگیلے اُس کے پچھے ہے۔

...

Dette er historia om Ngede, honningguiden, og ein grådig ung mann ved namn Gingile. Ein dag medan Gingile var ute på jakt, kalla Ngede på han. Gingile fekk vatn i munnen ved tanken på honning. Han stoppa og lytta oppmerksamt, og leitte til han såg fuglen i greinene over hovudet sitt. "Tsjitikk, tsjitikk, tsjitikk", kvitra den

Og på den måten, når børna til Gingilie hører forteljinga om Ngede, respekterer dei den vesle fuglen. Kvar gong dei sankar honning sørger dei for å gjé den største delen av vokskaka til honningguiden!

1

۶۰- میخانه تهران
۶۱- میرزا کوچک خان
۶۲- میرزا علی خان
۶۳- میرزا علی خان
۶۴- میرزا علی خان

vensele fuglen i det han flaug til det næste treet, og det næste. „Tsjitikk, tsjitikk, tsjitikk“, kalla han, og stoppa innimellom for å forsikra seg om at Gingile følgde etter.





آدھے گھنٹے کے بعد، وہ ایک بڑے انجیر کے درخت کے پاس پہنچے۔ اس نے پاگلوں کی طرح ٹہنیاں چھانی۔ اور چھر وہ ایک ٹہنی پر آ کر رُک گیا جیسا کہ وہ گلگیلے سے کہنا چاہتا ہوا ب آواز رہا! تھیں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ گلگیلے کو درخت کے نیچے کوئی مکھیاں دکھاتی نہ دیں، لیکن اس نے نگیڈے پر چھرو سے کیا۔

...

Etter ein halvtime nådde dei eit stort vilt fikentre. Ngede hoppa rundt som ein galen blant greinene. Han slo seg ned på ei grein og strekte hovudet mot Gingile som om han sa: "Her er det! Kom no! Kvifor brukar du så lang tid?" Gingile kunne ikkje sjå nokre bier frå under treet, men han stolte på Ngede.



اس سے پہلے کہ چیقی اس پر جملہ کرتی۔ گلگیلے درخت سے نیچے اتر آیا۔ جلد بازی میں اس نے ایک ٹہنی چھوڑی جس وجہ سے وہ سیدھا زمین پر آگرا اور اس کا پاؤں مڑ گیا۔ وہ تیزی سے فرار ہوا۔ خوش قسمتی سے چیقی نہیں میں ہو نے کی وجہ سے اس کا پچھانہ کر پائی۔ نگیڈے، شہد خور چڑیا نے اپنا بدلہ اے لیا۔ اور گلگیلے نے سوچ سیکھ لیا۔

...

Før Leopard kunne svinga labben etter Gingile, skunda han seg ned frå treet. I hastverket bomma han på ei grein og landa med eit høgt brak på bakken og forstua ankelen. Han hinka vidare så fort han kunne. Heldigvis for han var Leopard enno for søvnig til å jaga han. Ngede, honningguiden, hadde fått hemnen sin. Og Gingile hadde fått seg ein lærepenge.



Så Gingille la spydet sitt ned under treest og samla nokre tørrre kvistar og tennde eit litle bål. Då elden brann godt, stakk han ein lang, tørre kjepp inn i hjsartet av bålet. Denne veden var kjend for å lagta mykje røyk medan han brannte. Han byrja å klatra medan han heldt den kjelege enden av kjeppen mellom tenneiene.

...
لـ بـ شـ هـ مـ حـ نـ يـ بـ اـ سـ اـ وـ اـ
وـ لـ بـ شـ هـ مـ حـ نـ يـ بـ اـ سـ اـ وـ اـ
اـ سـ بـ شـ بـ هـ مـ حـ نـ يـ بـ اـ سـ اـ وـ اـ



Gingile klatra, men lurté på kvífor han ikkje høyrde den sedvalnægge summinga. „Kanskje bølet er djupt inne i treet“, tenkte han før seg sjølv. Han drog seg opp etter ei anna grein. Men i staden for bølet, stira han inn i auga til ein leopard! Leoparden var veldig sitt fordi såvæn hennar varit så brått avborte. Ho kneip att auga og opna munnen for å visa dei veldig lange og skarpe tenneene sine.

• • •





جلد ہی اُسے مصروف مکھیوں کی آواز آنا شروع ہوئی۔ وہ درخت میں ایک سوراخ میں سے آ جا رہیں تھیں جو کہ ان کا چھتہ تھا۔ جب گنگیلے کے چھتے کے پاس پہنچا اُس نے لکڑی کا جلدی ہوا حصہ مکھیوں کے چھتے میں ڈال دیا۔ مکھیاں غصے سے بھٹکناتی ہوئیں چھتے سے باہر نکلیں۔ وہ اُڑ کرنے کی وجہ سے اس کا جلدی پسند نہیں۔ لیکن اس سے پہلے نہیں جب تک وہ گنگیلے کو کچھ دردناک ڈنگ نہ مار لیتیں۔

...

Snart kunne han høyra summinga til dei travle biene. Dei kom inn og ut av eit holrom i trestammen – bolet deira. Då Gingile nådde bolet, dytta han den rykande enden inn i holrommet. Biene fór ut, sinte og klare til angrep. Dei flaug bort sidan dei ikkje likte røyken – men ikkje før dei hadde gjeve Gingile nokre smertefulle stikk!



ایک دن کئی ہفتوں کے بعد گنگیلے نے نگیدے کی شہد کے لیے پکار سنی۔ اُسے مزیدار شہد یاد تھا، اور اُس نے تیزی سے پہنڈے کا پچھا کیا۔ نگیدے کو جگل کے کمارے پر لا کر وہ رک گیا جہاں کانٹوں کا ایک جھاڑ موجود تھا۔ آہ۔ گنگیلے نے سوچا کہ شہد کا پچھا اسی درخت میں ہو گا۔ اُس نے جلدی سے آگ جلاتی اور دانوں میں جلتی ہوئی لکڑی کو دبا آئے درخت پر چڑھنے لگا۔ نگیدے یہ ٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔

...

Ein dag fleire veker seinare høyrdde Gingile igjen kallet frå Ngede. Han hugsa den herlege honningen og følgde ivrig etter fuglen nok ein gong. Etter at han hadde leidd Gingile langs skogkanten, stoppa han for å kvila i eit stort akasietre. ”Å”, tenkte Gingile. ”Bolet må vera i dette treet.” Han tende raskt det vesle bålet sitt og byrja å klatra med den rykande greina mellom tennene. Ngede sat og venta.

Då biene var ute, stakk Gingile handa si inn i bollet. Han tok ut handfuller med tunge vokskaker som drapet av herlig honning og var full av feite, kvite larvar. Han la vokskakene forsiktig i veska han bar på skuldra og bygja å klatra ned fra treet.

...

-*ରେ, କିମ୍ବା କିମ୍ବା*
କିମ୍ବା, କିମ୍ବା -*କିମ୍ବା, କିମ୍ବା* -*କିମ୍ବା*
କିମ୍ବା -*କିମ୍ବା* -*କିମ୍ବା* -*କିମ୍ବା* -*କିମ୍ବା*
କିମ୍ବା, କିମ୍ବା -*କିମ୍ବା* -*କିମ୍ବା* -*କିମ୍ବା* -*କିମ୍ବା*
କିମ୍ବା, କିମ୍ବା -*କିମ୍ବା* -*କିମ୍ବା* -*କିମ୍ବା* -*କିମ୍ବା*



han på! Men han skulle få hemmen sin.



نگیدے یہ سب بہت شوق سے دیکھ رہا تھا جو کچھ گمگیلے کر رہا تھا۔ وہ انفار میں تھا کہ بطر شہد خور چڑیا شکریہ کے طور پر وہ اُس کو شہدوے گا۔ نگیدے ایک شاخ سے دوسری شاخ نزدیک سے نزدیک زین پر اُس کے پاس جا نے کی کوشش میں تھا۔ آخر کار گمگیلے درخت سے نیچے اُتر آیا۔ نگیدے اُس کے پاس پڑے ایک پتھر پر آکر روکا اور اپنے انعام کا انفار کیا۔

...

Ngede såg ivrig på alt Gingile gjorde. Han venta på at han skulle leggja igjen ei tjukk vokskake som ei takkegåve til honningguiden. Ngede svinsa frå grein til grein, nærare og nærare bakken. Til slutt nådde Gingile foten av treet. Ngede sat på ein stein nær guten og venta på påskjøninga si.



لیکن گمگیلے نے آگ بچائی، اپنا ہتھیار انھایا اور گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ پرندے کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ نگیدے نے غصے سے پکارا۔ ٹک۔ ٹک! ٹک! ٹک! گمگیلے رکا پرندے کو گھورا اور زور سے ہنسا۔ تھیں شہد چاہیے؟ واقعی یہ رے دوست؟ آہ لیکن میں نے خود سارا کام کیا اور ڈنگ کا درد سہا۔ تو میں یہ مزیدار شہد تھہارے ساتھ کیوں بانڈوں؟ اور وہ چلا کیا۔ نگیدے شدید غصے میں تھا اُس سے اُس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ اپنا بدلہ اے گا۔

...

Men Gingile sløkte bålet, plukka opp spydet, byrja å gå heim og oversåg fuglen. Ngede ropte sint: "SI-ger, SI-ger!" Gingile stoppa og stira på den vesle fuglen og lo høgt. "Du vil ha litt honning, du, vesle ven? Ha! Men eg gjorde alt arbeidet og fekk alle stikka. Kvifor skulle eg dela noko av denne herlege honningen med deg?" Ngede var rasande! Dette var då ingen måte å behandla